

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

Centre for Distance and Online Education

Assignment No. 2 (Unit 1-16)

4 Year Undergraduate Programme (4YUG)

B.Com Hons. 2nd Semester

Financial Accounting - 2 (BNCM201DCT) فینانشیل اکاؤنٹنگ 2

Batch = NEP 2025

Max Marks: 15

Last Date: See Notice

(3×5=15)

نوٹ: ذیل میں دیے گئے سوالات میں سے کسی تین کے جواب لکھیے۔

- 1۔ بل آف ایکسیج کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اس میں شامل فریقین کی وضاحت کیجئے۔
- 2۔ یکم جنوری 2026 کو مسٹر x نے مسٹر y کو 2,00,000 روپے کا مال ادھار فروخت کرتا ہے اور y پر تین سال کی بل تحریر کرتا ہے جس پر مسٹر y قبولیت دیتا ہے۔ وقت پر بل قبول ہوتی ہے۔ دونوں فریقین کی کتابوں میں عام اندراج کیجئے۔
- 3۔ مسٹر حیدرآباد کے شا کرنے بنگلور کے مسٹر نوید کو فی سیکل 15,000 روپے کے حساب سے 50 سیکل ترسیل مال کرتا ہے۔ مال کی روانگی ویبہ کے جملہ 10,000 روپے ادا کرتا ہے۔ مسٹر نوید نے فی سیکل 22,000 روپے کے حساب سے تمام سیکل فروخت کرتا ہے جس پر 15% کمیشن دیا جاتا ہے۔ نوید نے دوکان کا کرایہ 10,000 روپے اور ملازم کی تنخواہ 10,000 روپے کو ادا کرتا ہے۔ اہم کھاتے کھولتے ہوئے عام اندراجات کیجئے۔
- 4۔ ذیل میں کلب کا 3 دسمبر 2019 سال ختم پر وصول اخراجات کا کھاتہ اور بیلنس شیٹ دی گئی ہے۔ جس کی مدد سے آمدنی و اخراجات کا کھاتہ اور بیلنس شیٹ تیار کیجئے۔

Noor Club's

Receipt and Payment Account as on 31-12-2019

Receipts ذمہ داریاں	Amount رقم	Payments اثاثہ	Amount رقم
To Balance b/d	2,20,000	By Salaries	1,30,000

To Subscription		By Interest Paid	20,000
2018	1,10,000	By General Expenses	20,000
2019	3,70,000	By Wages	15,600
2020	50,000	By Outstanding Expenses of last year paid	20,000
To Donation for Building	4,00,000	By Construction of Building	
To Locker Rent	50,000	By Investment purchased	2,00,000
To Entrance Fee	3,000	(1-1-2019 @ 10%)	1,00,000
To Interest on Investment	5,000	By Balance c/d	7,02,400
	12,08,000		12,08,000

Noor Club's

Opening Balance Sheet as on 31-12-2018 (01-01-2019)

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Capital fund	6,10,000	Building	2,00,000
Outstanding expenses	20,000	Machinery	1,00,000
		Outstanding subscription	1,10,000
		Cash in hand	21,20,000
	6,30,000		6,30,000

مطابقتیں:

1. دوران سال 2019 میں 1,00,000 روپے وصول شدنی چندے ہیں۔
2. عمارت پر 5% اور مشینری پر 10% سالانہ فرسودگی عائد کی جائے۔
3. 50% داخلہ فیس کو آمدنی اور باقی Capitalised کیا جائے۔
- 5- ایک کمپنی 1,00,000 روپے میں چار سال کے لیے پٹہ (Lease) پر اثاثہ حاصل کرتی ہے۔ 4% سالانہ سود پر سالانہ طریقہ (Annuity Method) کے تحت پٹے پر قلمزد کرنے کے لیے ہر روپے پر محسوب کی گئی سالانہ رقم 0.275490 روپے ہے۔ چار سال کا پٹہ کھاتہ (Lease Account) تیار کرتے ہوئے ضروری عام اندراجات کیجیے۔